

برائے فوری اجراء

Alectra سٹی آف برامپٹن میں 400 ملازمین پر مشتمل LEED توثیق شدہ کارروائیوں کا نیا مرکز کھولے گی

برامپٹن، آن (15 جون 2021) – گزشتہ ہفتے برامپٹن کی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ میں، Alectra نے برامپٹن میں 200 کینیڈی روڈ ساؤتھ پر موجود ایک بالکل نیا پائیدار کارروائیوں کا مرکز تعمیر کرنے کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔

نئے مقام کے ایک کلو میٹر کے اندر خوردہ کے شعبے میں 78 کاروباری ادارے اور رہائش اور خوراک کے شعبے میں 55 کاروباری ادارے موجود ہوں گے۔ علاقے میں 400 ملازمین لانے کے لیے – موجودہ جگہ پر نوکریوں میں اڑھائی گنا اضافے کے ساتھ – Alectra کارروائیوں کے مرکز کے نزدیکی فاصلے پر موجود برامپٹن کے خوردہ اور خوراک کے کاروباری اداروں کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی، جس سے مستقبل میں شہر کی مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہو گا اور اسے ترقی ملے گی۔

شہر کی کمیٹی برائے استحکام کے مطابق، نئی سہولت گاہ LEED (لیڈرشپ ان انرجی اینڈ انوائرنمنٹ) ہو گی جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ پر تصدیق شدہ ہے اور برامپٹن اور مسسی ساگا کو خدمات پیش کرنے والے Alectra کے 400 سے زائد ملازمین کے لیے متحدہ کارروائیوں کا مرکز ہے۔

LEED سے تصدیق شدہ عمارتوں کی کچھ خصوصیات میں درج ذیل شامل ہوں گی:

- اپ گریڈڈ آؤٹ ڈور ایئر سسٹمز (DOAS) - جو کہ LEED گولڈ اسٹینڈرڈ سے بڑھ کر تقریباً 43% تک GHG کے اخراج کو کم کرتے ہیں
- چھت پر 500KW سولر پاور کی پیداوار - 800 MWh/سالانہ سے زائد قابل تجدید توانائی، جو عمارت کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گی
- 30 سے زائد الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز انسٹال کیے جائیں گے اور وہ Alectra کی گاڑیاں، ملازمین اور عام عوام کے استعمال میں آئیں گے

اگست 2021 کے لیے ایک افتتاحی تقریب کو آزمائشی طور پر ترتیب دیا گیا ہے اور اس منصوبے کو اگست 2023 تک پورا کرنے کو پلان کیا گیا ہے۔

Alectra کے بارے میں مزید [پڑھیں](#)۔ برامپٹن میں اقتصادی ترقی کی بارے میں مزید [پڑھیں](#)۔

Alectra Inc کے بارے میں

اوتھارو گریٹر گولڈن ہارس شو ایریا میں موجد دس لاکھ سے زائد گھروں اور اداروں کو خدمات پیش کرنے والی، Alectra یوٹیلٹیز اب کینیڈا میں میونسپلٹی کی زیر ملکیت سب سے بڑی بجلی کی سہولت ہے، جو کہ ان صارفین کی کل تعداد پر مبنی ہے جن کو Alectra نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ وہ انرجی کے ضروری انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کر کے، ایک محفوظ اور قابل بھروسہ بجلی کی سپلائی فراہم کر کے، اور اختراعی انرجی کے حل فراہم کر کے ان 17 کمیونٹیز کی اقتصادی ترقی اور فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے جن کو وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔

Alectra کا مشن بجلی کا اتحادی بننا ہے، آنے والے کل کے انرجی کے مستقبل کے امکانات کو دریافت کرنے کے لیے اپنے صارفین اور کمیونٹیز کی مدد کرنا ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے، اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم زیادہ بڑھتی ہوئی مستحکم کمیونٹی تعمیر کرنے اور آب و ہوا کی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں واپس لانے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے پر عزم ہیں۔ ہم پر عزم ہیں کہ Alectra نے اپنی کارروائیوں کے نئے مرکز کی جگہ کے لیے برامپٹن کا انتخاب کیا ہے، اور ہم کینیڈی روڈ ایریا پر مقامی کاروباری اداروں پر اس نئے مقام کے اضافی فوائد دیکھنے کے منتظر ہیں جو یہ لے کر آئے گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن 2050 تک شہر میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کے سفر پر گامزن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کے لیے پوری کمیونٹی میں موجود شراکت داروں کی مشترکہ کاوشیں کارآمد ثابت ہوں گی۔ ہم Alectra کے نئے LEED سے تصدیق شدہ گولڈ اسٹینڈرڈ کارروائیوں کے مرکز کے افتتاح کے منتظر ہیں اور ان 400 ملازمین کے لیے پرجوش ہیں جو برامپٹن کی شاندار غذا اور خوردہ کے نزدیکی کاروباری اداروں کا تجربہ کرنے کے لیے مرکز پر تعینات ہوں گے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

برامپٹن ایک ایسے اقتصادی ماحول کی پیشکش کرتا ہے جو سرمایہ کاری کی معاونت کرتا ہے اور جس سے کاروباری ادارے ہماری کمیونٹی کے ساتھ فروغ پا سکتے ہیں۔ ہم Alectra کے برامپٹن کے اندر پھیلنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ تعمیراتی شعبے میں ملازمتیں پیدا کرے گا اور ایک بار مکمل ہو جانے پر، اس 400 لوگوں کی جگہ کے اضافی فائدے سے علاقے کے مقامی کاروباری ادارے مستفید ہوں گے۔"

پال ویسٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن نہایت خوشی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ Alectra نے ہمارے گرین سٹی کو اپنے نئے کارروائیوں کے مرکز کے مقام کے طور پر منتخب کیا ہے۔ نئی LEED سے تصدیق شدہ سہولت گاہ GHG کے اخراج کو کم کرنے اور علاقے میں ملازمتیں پیدا کرے گی، جس سے مقامی کاروباری علاقوں کو اپنی بحالی میں معاونت حاصل ہو گی۔ وارڈ 3 کی جانب سے، ہم ان کا اپنے علاقے میں خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز 3 اور 4، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کے عملے کی جانب سے، ہم Alectra کو 200 کینیڈی روڈ ساؤتھ، برامپٹن پر تعمیر کیے جانے والے ان کے کارروائیوں کے مرکز کی خیر پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم کونسل کی ترجیح کی شرط کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں: برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے اور ہماری کمیونٹی کے ان تمام شراکت داروں کا خیر مقدم کرتا ہے جو آب و ہوا کی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں واپس لانے کے لیے ہمارے مسلسل عزم میں اشتراک کرتے ہیں اور انرجی کی افادیت کو بہتر بناتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ایک مستحکم کمپنی کے طور پر، Alectra جدید انرجی کے حل کا نفاذ کر کے ہمارے ماحول پر مرتب کیے گئے اثرات میں کمی لانے کے لیے پر عزم ہے۔ یہ نئی عمارت نہ صرف پیل کے علاقے میں صارفین کے لیے ہماری سروس کی سطحوں میں بہتری لائے گی، بلکہ یہ ہمیں 2050 تک نیٹ زیرو بن جانے کے سفر میں بھی مدد دے گی۔"

جیمز میکمبر، وائس پریزیڈنٹ، سیلائی چین، Alectra یوٹیلیٹیز

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca